



Soneri Bank

ڈپازٹ پروڈکٹس کے لئے حقائق پر مبنی اہم بیان (01 جولائی 2026 سے مؤثر)

تاریخ

اہم: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنے پر غور کر رہے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے بینکوں کے ذریعے تائید شدہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لئے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کے لئے دوسرے بینکوں سے کے ایف ایس وصول کرنے کا حق ہے۔

برانچ

شمار

اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات:

بہ معلومات مذکورہ تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ خدمات، فیس اور مارک اپ ریت ششماہی بنیاد پر تبدیل کے حوالے ہیں اور اس سے آپ کو مطلع کیا جا سکتا ہے۔ ہماری معیاری فیس / چارجز کے لئے، آپ ہماری ویب سائٹ یا ہماری برانچ وزٹ کر سکتے ہیں۔

کرنٹ اکاؤنٹس

تفصیلات		سودہری سرمایہ اکاؤنٹ (معاوضہ بنج)		اختیار اور کرنٹ		پیشترز		ویک پیکنگ		لیڈر منرسود		آسان		آسان ریمنٹس		کسان		ایس ایم ای کرنٹ اکاؤنٹ					
کرنسی		پاکستانی روپے		پاکستانی روپے		پاکستانی روپے		پاکستانی روپے		پاکستانی روپے		پاکستانی روپے		پاکستانی روپے		پاکستانی روپے		پاکستانی روپے					
اکاؤنٹ کے لئے کم سے کم بیلنس		کھلوانے کیلئے		0 روپے		کرنٹ اکاؤنٹ -/100 روپے اختیار اکاؤنٹ -/1,000 روپے		0 روپے		1,000 روپے		100 روپے		0 روپے		100 روپے		100 روپے					
		برقرار رکھنے کیلئے		0 روپے		کرنٹ اکاؤنٹ 0 روپے اختیار اکاؤنٹ -/5000 روپے		0 روپے		0 روپے		0 روپے		0 روپے		0 روپے		0 روپے					
اکاؤنٹ کی میٹیننس فیس		0 روپے		0 روپے		کرنٹ اکاؤنٹ صفر اختیار اکاؤنٹ -/50 روپے ماہانہ FED سمیت		0 روپے		0 روپے		0 روپے		0 روپے		0 روپے		0 روپے					
کیا اکاؤنٹ پر منافع دیا جاتا ہے (متاثرہ اطلاق فیس کی شرح سے مشروط ہے)				متاثرہ اطلاق		متاثرہ اطلاق نہیں																	
				Slab																Rate			
				Up to Rs. 999,999																0%			
				Rs. 1 Million to Rs. 2.49 Million																7.50%			
				Rs. 2.5 Million to Rs. 4.99 Million																8.50%			
				Rs. 5 Million and above		9.50%																	
				منافع بخش اشارے				ماہانہ		مثلاً (1000 روپے پر آپ متعین کردہ مدت میں --- روپے کما سکتے ہیں)													
				Slab Rate		Profit Amount																	
Up to Rs. 999,999		Rs. 0/-																					
Rs. 1 Million to Rs. 2.49 Million		Rs. 75/-																					
Rs. 2.5 Million to Rs. 4.99 Million		Rs. 85/-																					
Rs. 5 Million and above		Rs. 95																					
قبل از وقت / جلد انکیوشن / اخلاقی فیس				متاثرہ اطلاق نہیں																			



اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لئے اہم سروس چارجز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ آپ مکمل فہرست ہماری ویب سائٹ www.soneribank.com دیکھ سکتے ہیں۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ تمام بینک چارجز متاثرہ اطلاق میسرز کے علاوہ ہیں۔										
سروسز	اقسام	کرنٹ اکاؤنٹس								
		سونری سرمدی اکاؤنٹ (مدفعہ ج)	اختیار اور کرنٹ	پیشتر	بینک بینکنگ	لیڈر منسٹ	آسان	آسان ریفرنس	کمان	ایس ایم ای کی کرنٹ اکاؤنٹ
فنانسین دین	انٹر سٹی	0 روپے								
	انٹر اسٹی	0 روپے								
	بینک کے اے ٹی ایم سے ودڈراؤل	0 روپے								
	دیگر بینک کے اے ٹی ایم سے ودڈراؤل	35 روپے فی ٹرانزیکشن (بشمول ایف ای ڈی)								
ایس ایم ایس آر فیس	اے ڈی سی / ویببینٹل / کلیئرنگ	0 روپے								
	دیگر ٹرانزیکشنز کے لئے	افسرا کے ذاتی اکاؤنٹس - 300/- روپے ماہانہ تمام کاروباری اور اداروں کے اکاؤنٹس بشمول واحد - ملکیت - 500/- روپے ماہانہ								
ڈیبٹ کارڈ (سلاٹ چارجز)	پے پاک	3,000 روپے	3,000 روپے	3,000 روپے		* 3000 روپے (فیس معافی کے لئے پروگرام آپ کو مسلم ہجہ چھپانے والا حصہ ملے گا کریں)				
		پہلے سال کی سلاٹ فیس	اکتھ سالوں کی سلاٹ فیس							
	ماسٹر کارڈ اسٹیٹ فرڈ	پہلے سال کی سلاٹ فیس								
		ماسٹر کارڈ	0 روپے	4,000 روپے						
	ماسٹر کارڈ گولڈ		5,000 روپے							
	ماسٹر کارڈ پلانٹینم		پرائمری	10,000 روپے						
		پلسیمینٹری	6,500 روپے							
چیک بک	احبار	- / 30 روپے فی ایف		مفت						
	اسٹاپ پیمنٹ	کم از کم 800 روپے فی چیک زیادہ سے زیادہ 1,600 روپے فی پورٹ (کئی چیکس کی صورت میں)								
	(چیک بک کی سطح کے چارجز (آگر 45 دن کے اندر وصول نہ کی جائے)	متاثرہ اطلاق نہیں		تمام نان ریویو نیو کرنٹ اکاؤنٹس کے لئے فی چیک 12 روپے (ٹی ٹی بی)						
ترسیلات زر (مقامی)	بینکر چیک / پے آرڈر	بینکر چیک - 550 روپے فی انٹر وینٹ سکیم ریٹریڈ پازٹ کی رسپیڈٹ	مفت		مفت	مفت	مفت	مفت		
ترسیلات زر (خیر ملکی)	فنانس ڈیسٹریڈرڈ	- / 20 ڈالر زیادہ سیڈی بشمول سوکٹ چارجز								
	وائز ٹرانسفر	- / 45 ڈالر زیادہ سیڈی بشمول سوکٹ چارجز								
	پاکستانی روپی اکاؤنٹ کیلئے FTT/FDD کے احبار کے سروس چارجز	0.10% یا کم از کم - / 1000 روپے								
اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ	سلاٹ / سٹشای	0 روپے								
	فٹل	35 روپے یا دیگر کرنسیوں میں مساوی (بشمول ایف ای ڈی ہر 6 ماہ میں اضافہ فی 35 روپے یا دیگر کرنسیوں میں مساوی ہر 6 ماہ کیلئے وصول کئے جائیں گے)								
فنانس ٹرانسفر	اے ڈی سی / ویببینٹل / چیسٹر	0 روپے								
	آئی ٹی ایف ٹی	- / 25,000 روپے ماہانہ ٹک - / 0 روپے - / 25,000 روپے سے زائد 0.1% 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو (بشمول ایف ای ڈی)								
	ویببینٹل بینکنگ	فون / موبائل / انٹر نیٹ بینکنگ سبکپریشن (ایک دفعہ اور سلاٹ)		0 روپے						



Soneri Bank

سروس چار جزی								
اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لئے اہم سروس چار جزی کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چار جزی شامل نہیں ہیں۔ آپ مکمل فہرست ہماری ویب سائٹ www.soneribank.com دیکھ سکتے ہیں۔ برائے مہربانی نوٹ کریں کہ تمام بینک چار جزی قابل اطلاق ٹیکسز کے علاوہ ہیں۔								
سروسز	اقام	کرنٹ اکاؤنٹس						
		سونیری سرمایہ اکاؤنٹ (مصلحت منج)	اعتیار اور کرنٹ	پیشتر	چیک بینک	سیڈیز منسرف	آسان	آسان ری میٹنس
کلیرنگ	مارسل	0 روپے						
	انٹرنسٹی	400 روپے فی انسٹرومنٹ						
	ای دن	600 روپے فی انسٹرومنٹ						
اکاؤنٹ کی بندش	کسٹمر کی درخواست	0 روپے						

لازمی معلوم ہونا چاہئے	
اکاؤنٹ کھولنے کی ضروریات: اکاؤنٹ کھولنے کے لئے آپ کو ریگولیٹری ہدایات اور بینک کی داخلہ پالیسی کے مطابق شناخت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لئے دستاویزات اور معلومات کی ضروریات شامل ہو سکتی ہے۔ وقت فوقتاً ایسی معلومات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ براہ مہربانی مزید تفصیلات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔ اگر بے پاک کارڈ کے اجراء کے وقت صارف کے اکاؤنٹ کا بیلنس 25000 روپے یا اس سے زیادہ ہے تو پہلے بے پاک ڈیبٹ کارڈ کی فیس معاف کر دی جائے گی۔ تجدید/بعد کے سالوں کیلئے فیس معاف کر دی جائے گی اگر اکاؤنٹ میں سالانہ اوسط بیلنس 25000 روپے یا اس سے زیادہ ہے بصورت دیگر شیڈول آف چارجز کے مطابق چارجز لاگو ہوں گے۔ چیک بانٹس: بے ایملنی سے چیک کا احبرا پاکستان بینل کوڈ کی دفعہ 489F کے مطابق مجبر ممانہ غفلت ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ چیک لکھنا چاہئے۔ سیف کسٹڈی: آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی کے ٹولز کی محفوظ تحویل جیسے ڈیبٹ کارڈز، پین کوڈز، چیکس، ای بینکنگ یوزر نیمز، پاس ورڈز، دیگر ذاتی معلومات، وغیرہ۔ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صارف کی جانب سے سکیورٹی خطرات کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ معلومات کے حصول کیلئے سونی ری بینک کی جانب سے آپ کو کبھی بھی کال نہیں کی جائے گی۔ ریکارڈ ہولڈین: کسی بھی اہم مواصلات کی ضروری سے بچنے کے لئے ہمیشہ بینک کے پاس موجود پروفنٹل/ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ آپ اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرانے کے لئے متعلقہ برانچ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ 12 ماہ تک غیر فعال رہتا ہے (یعنی کوئی ڈیبٹ یا کریڈٹ ٹرانزیکشن یا ڈیجیٹل چینل کے ذریعے لاگ ان نہیں) تو اسے غیر فعال سمجھا جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جاتا ہے، تو آپ کو کسی بھی ڈیبٹ ٹرانزیکشن/وائی کی اجازت نہیں جائے گی۔ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کیلئے، آپ کو بینک کے ریکارڈز میں رجسٹرڈ ذرائع/چینلز اور تمام قابل اطلاق بینک کی ضروریات کو پورا کرنے کے ذریعے بینک کو باقاعدہ طور پر پھرتی ہوئی اور دستخط شدہ درخواست جمع کرنا ہوگی۔ پشش اکاؤنٹ کے معاملے میں، اگر آپ ہر چھ ماہ کے بعد بائیو میٹرک تصدیق یا لائف سرٹیفیکیٹ فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا لگاتار چھ ماہ تک پشش کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا پشش اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔ فیملی پششر (بیوہ/بیٹی/بھن) کے معاملے میں، اگر آپ ہر 30 ماہ تک برکواس سے پہلے تیر شادی شدہ اعلامیہ جمع کرانے میں ناکام رہتے ہیں، تو آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔	غیر دعویٰ شدہ فائرس: بینکنگ کمپنیز (ترتبی) ایکٹ، 2024 کے سیکشن 31 کے تحت، وہ تمام فائرس جو گذشتہ 15 سال کے عرصے سے غیر فعال رہے ہیں، ماسوائے کسی نابالغ یا حکومتی یا کسی عدالتی نام پر فائرس، قانونی امور کی انجام دہی کے بعد متعلقہ بینکوں کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کے حوالے کردیئے جائیں گے۔ حوالہ شدہ فائرس متعلقہ بینکوں کے ذریعے کلیم کئے جاسکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے، برائے مہربانی اپنی متعلقہ برانچ سے رجوع کریں۔ اس اکاؤنٹ کی بندش: اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کے لئے دستخط شدہ اکاؤنٹ بندش کی درخواست بمع غیر استعمال شدہ چیک بک اور ڈیبٹ کارڈ (اگر کوئی ہو) اپنی متعلقہ برانچ میں جمع کروائیں۔ آسان اکاؤنٹ: درج ذیل لین دین کی حدیں قابل اطلاق ہوں گی: ماہانہ مجموعی ڈیبٹ کی حد: 1,000,000 روپے کل کریڈٹ بیلنس کی حد: 3,000,000 روپے ماسٹر اکاؤنٹ: بالغ یعنی 18 سال کی عمر تک پہنچنے پر سابقہ نابالغ کو تمام ضروری دستاویزی کارروائی کی تکمیل اور CCD کے بعد نیا اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔ بینک نئے اکاؤنٹ کھولنے اور اس میں فنڈز ٹرانسفر ہونے تک سابقہ ماسٹر اکاؤنٹ کے ڈیبٹ پر پابندی لگا سکتا ہے۔ آپ کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں یا شکایت کر سکتے ہیں؟ برائے رابطہ: سونی ری بینک لینڈز۔ کیپلیٹ نیٹجیٹ یونٹ، کسٹمر ایکسپریس فائرنٹ، تیسری منزل خیابان مشیر سونی ری برانچ، پلاٹ نمبر: C/1، اسٹیڈیم لین نمبر: DHA-01، فیئر V، کراچی۔ ڈائریکٹ: 021-35171925-6 یو ایس این: 111-567-890 Ext-107 کال ٹیک سینٹر: 021-111- SONERI (766374) ای میل: complaint.suggestion@soneribank.com ویب سائٹ: www.soneribank.com اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو، آپ رابطہ کر سکتے ہیں: کراچی سیکریٹریٹ، بینکنگ محتب پاکستان سیکریٹریٹ پانچویں منزل، سٹیشن چیکس، ایم آر کبانی روڈ، کراچی ٹیلی فون نمبر: 9221-99217334 فیکس: 9221-99217375 ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk

میں حق آتی پر مبنی اس بیان کی وصولی اور اس کو بخوبی سمجھنے کا اعتراف کرتا ہوں	
کسٹمر کا نام	تاریخ
منتخب شدہ پروڈکٹ	
اکاؤنٹ میسڈیرٹ	
پتہ	
برائے رابطہ	ای میل ایڈریس
کسٹمر کے دستخط	تصدیق شدہ دستخط

نوٹ: صارف کو ریکارڈ اور معلومات کیلئے ایک نقل فراہم کی جائے گی۔